



سوال

(17) خوب صورت آواز سے قرآن مجید کی تلاوت

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

فضیلۃ الشیخ! ترم سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے کیا معنی ہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سنت صحیحہ میں ترم سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے تو اسے مراد تحسین صوت ہے اسم کے معنی یہ نہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت گانے کے انداز میں کی جائے صحیح حدیث میں ہے:

«نَأْذِنُ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيِّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَهْجُرُهُ» (صحیح البخاری التوحید باب قول النبی ﷺ الماهر بالقرآن مع سفرة الکرام البررة الخ ح: 7544 و صحیح مسلم صلاة المسافرین باب استحباب تحسین الصوت بالقرآن ح: 792

”اللہ تعالیٰ نے اور کسی کی طرف اس طرح کان نہیں لگائے جس طرح اپنے نبی کی قرآن مجید کی جس صوت اور بلند آواز سے تلاوت کی طرف کان لگائے ہیں۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ:

«لَيْسَ مِثْلَ مَنْ لَمْ يَتَّقِنِ بِالْقُرْآنِ» (صحیح البخاری التوحید باب قول اللہ تعالیٰ واسموا قلوبکم اوابہروہ الخ حدیث، 7527)

”وہ ہم مس سے نہیں ہے جو خوبصورت اور بلند آواز سے قرآن کی تلاوت نہ کرے۔“

مذکورہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے جو کان لگا کر قرآن مجید سننے کا ذکر ہے تو یہ سننا اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے شایان شان ہے۔ اس میں صفت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی دیگر تمام صفات کی طرح مخلوق سے مشابہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کان اور سننے کے بارے میں بھی وہی کہا جائے گا جو اس کی دیگر صفات کے بارے میں کہا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اس طرح پوری ہیں جس طرح اس کی ذات گرامی کے شایان شان ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ ۱۱ ... سورة الشورى



”اس جیسی کوئی چیز نہیں وہ سننے اور دیکھنے والا ہے“

(یعنی) (یعنی ترنم سے تلاوت کرنے) سے مراد بلند اور خوبصورت آواز کے ساتھ خشوع و خضوع سے تلاوت کرنا ہے تاکہ اس سے دل کے تار مل جائیں اور مقصود بھی یہی ہے کہ قرآن سے دل بلائیے جائیں تاکہ دلوں میں خشوع پیدا ہو اور اطمینان و سکون بھی اور وہ قرآن مجید سے استفادہ بھی کریں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک بار نبی ﷺ کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے آپ نے ان کی تلاوت کو سننا شروع کر دیا اور پھر فرمایا:

«يَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ أَوْتَيْتَ مِرْثًا مِنْ مِرْثِ أَمِيرِ آلِ دَاوُدَ» (صحیح البخاری فضائل القرآن باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن حدیث 5048 و صحیح مسلم صلاة المسافرين باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن حدیث 793 و سنن النسائی الاقمتاح ترمین القرآن بالصوت حدیث 1022 والفظله)

اسے تو آل داود علیہ السلام کا سا کھن عطا کیا گیا ہے۔“

جب سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے انہیں بتایا کہ آپ ان کی تلاوت سنتے رہے ہیں تو انہوں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ میری تلاوت سن رہے تو میں اور بھی زیادہ خوبصورت طریقے سے تلاوت کرتا۔“

(السنن الکبریٰ للبیہقی: 230-231 مسند ابی یعلیٰ 7279/13)

نبی ﷺ نے انہیں خوبصورت طریقے سے پڑھنے سے منع کیا نہیں فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ خوبصورت آواز میں بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کنا امر مطلوب ہے تاکہ پڑھنے اور سننے والے میں خشوع بھی پیدا ہو اور دونوں قرآن مجید سے استفادہ بھی کریں۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

ج 4 ص 30

محدث فتاویٰ